

Title	『フフ・トグ/青旗』（1945年）第171号（4月23日）
Author(s)	
Citation	OUFCブックレット. 2019, 16-1, p. 47-50
Version Type	VoR
URL	<a href="https://hdl.handle.net/11094/73288">https://hdl.handle.net/11094/73288</a>
rights	
Note	

*Osaka University Knowledge Archive : OUKA*

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

Osaka University



Vertical text on the left side of the advertisement, likely a slogan or brand name.

Vertical text on the right side of the advertisement, providing details about the product or service.

Vertical text block in the upper middle section, possibly a testimonial or a detailed description.

Vertical text block in the upper middle section, continuing the advertisement content.

Vertical text block in the upper middle section, providing further information.

Vertical text block in the upper middle section, part of the overall ad.

Vertical text block in the upper middle section, concluding the advertisement.

Vertical text block in the lower middle section, likely a testimonial or a detailed description.

Vertical text block in the lower middle section, continuing the advertisement content.

Vertical text block in the lower middle section, providing further information.

Vertical text block in the lower middle section, part of the overall ad.

Vertical text block in the lower middle section, concluding the advertisement.

Vertical text block in the lower middle section, likely a testimonial or a detailed description.

Vertical text block in the lower middle section, continuing the advertisement content.

Vertical text block in the lower middle section, providing further information.

Vertical text block in the lower middle section, part of the overall ad.

Vertical text block in the lower middle section, concluding the advertisement.

Vertical text block in the lower middle section, likely a testimonial or a detailed description.

Vertical text block in the lower middle section, continuing the advertisement content.

Vertical text block in the lower middle section, providing further information.

Vertical text block in the lower middle section, part of the overall ad.

Vertical text block in the lower middle section, concluding the advertisement.

Vertical text block in the lower middle section, likely a testimonial or a detailed description.

Vertical text block in the lower middle section, continuing the advertisement content.

Vertical text block in the lower middle section, providing further information.

Vertical text block in the lower middle section, part of the overall ad.

Vertical text block in the lower middle section, concluding the advertisement.

Vertical text block in the lower middle section, likely a testimonial or a detailed description.

Vertical text block in the lower middle section, continuing the advertisement content.

Vertical text block in the lower middle section, providing further information.

Vertical text block in the lower middle section, part of the overall ad.

Vertical text block in the lower middle section, concluding the advertisement.

Vertical text block in the lower middle section, likely a testimonial or a detailed description.

Vertical text block in the lower middle section, continuing the advertisement content.

Vertical text block in the lower middle section, providing further information.

Vertical text block in the lower middle section, part of the overall ad.

Vertical text block in the lower middle section, concluding the advertisement.

Vertical text block in the rightmost column, likely a testimonial or a detailed description.

Vertical text block in the rightmost column, continuing the advertisement content.

Vertical text block in the rightmost column, providing further information.

Vertical text block in the rightmost column, part of the overall ad.

# 論社會主義之發展

社會主義之發展，實為人類文明進步之必然結果。自工業革命興起，社會階級日益分明，貧富懸殊，社會矛盾日趨激化。在此種社會環境下，社會主義思想遂蓬勃發展，成為改造社會之唯一途徑。

社會主義之核心，在於主張社會資源之公平分配，以及勞動者之解放。其發展之動力，來自於被壓迫階級之覺醒與反抗。在資本主義社會中，勞動者受資本家之剝削，生活日益困苦，此種不平等之現象，促使勞動者尋求改變現狀之方法，社會主義遂應運而生。

## 社會主義之發展與社會環境之關係

社會主義之發展，並非孤立之現象，其與社會環境之關係極為密切。社會環境之變遷，往往成為社會主義興起之契機。例如，在封建社會末期，由於生產力之發展，封建制度日益腐朽，農民階級之反抗運動頻繁，此種社會環境，為社會主義思想之萌芽提供了土壤。

在資本主義社會中，社會主義之發展更為迅速。由於資本主義生產方式之普及，社會階級之對立日益尖銳，勞動者之覺醒亦更為徹底。在此種社會環境下，社會主義不僅僅是理論之探討，更成為一種實際之行動，各國社會黨之興起，即是明證。

## 社會主義之發展與國際形勢之關係

社會主義之發展，亦深受國際形勢之影響。在國際範圍內，社會主義思想之傳播，往往與國際形勢之變遷相輔相成。例如，在第一次世界大戰期間，由於戰爭之爆發，各國社會主義運動均獲得空前之發展。此種國際形勢，為社會主義之發展提供了有利之條件。

同時，社會主義之發展亦對國際形勢產生深遠之影響。社會主義運動之興起，促使各國政府採取改革措施，以緩和社會矛盾。此外，社會主義運動亦推動了國際工人運動之發展，促進了各國勞動者之團結與合作。

## 社會主義之發展與未來社會之展望

社會主義之發展，為人類社會之未來提供了光明之展望。社會主義之實現，將使社會資源得到公平分配，勞動者獲得解放，社會達到和諧與穩定。此種未來社會之實現，將是人類文明進步之最高境界。

然而，社會主義之實現並非易事，它需要勞動者之覺醒與奮鬥，需要社會環境之改善，也需要國際形勢之有利。在當前社會環境下，社會主義運動應進一步發展，為實現未來社會之理想而努力。

## 社會主義之發展與中國之關係

社會主義之發展，與中國之關係極為密切。在中國社會環境下，社會主義思想之傳播，具有深遠之意義。中國社會之貧富懸殊，以及勞動者之受壓迫，均為社會主義思想之興起提供了土壤。

在中國，社會主義運動之發展，應與民族解放運動相結合。中國勞動者之覺醒與反抗，不僅是為了爭取自身之利益，更是為了爭取國家之獨立與民族之解放。社會主義思想之傳播，將為中國之民族解放運動提供理論之指導。

## 社會主義之發展與中國革命之關係

社會主義之發展，與中國革命之關係極為密切。在中國社會環境下，社會主義思想之傳播，為中國革命之發展提供了理論之指導。中國革命之成功，需要社會主義思想之指導，需要勞動者之覺醒與奮鬥。

在中國，社會主義運動之發展，應與中國革命相結合。中國革命之發展，不僅是為了爭取國家之獨立與民族之解放，更是為了實現社會主義之理想。社會主義思想之傳播，將為中國革命之發展提供理論之指導。

## 社會主義之發展與中國未來之展望

社會主義之發展，為中國之未來提供了光明之展望。社會主義之實現，將使中國社會資源得到公平分配，勞動者獲得解放，中國社會達到和諧與穩定。此種未來社會之實現，將是中國文明進步之最高境界。

然而，社會主義之實現並非易事，它需要中國勞動者之覺醒與奮鬥，需要中國社會環境之改善，也需要國際形勢之有利。在中國社會環境下，社會主義運動應進一步發展，為實現未來社會之理想而努力。

## 社會主義之發展與中國革命之關係

社會主義之發展，與中國革命之關係極為密切。在中國社會環境下，社會主義思想之傳播，為中國革命之發展提供了理論之指導。中國革命之成功，需要社會主義思想之指導，需要勞動者之覺醒與奮鬥。

在中國，社會主義運動之發展，應與中國革命相結合。中國革命之發展，不僅是為了爭取國家之獨立與民族之解放，更是為了實現社會主義之理想。社會主義思想之傳播，將為中國革命之發展提供理論之指導。

## 社會主義之發展與中國未來之展望

社會主義之發展，為中國之未來提供了光明之展望。社會主義之實現，將使中國社會資源得到公平分配，勞動者獲得解放，中國社會達到和諧與穩定。此種未來社會之實現，將是中國文明進步之最高境界。

然而，社會主義之實現並非易事，它需要中國勞動者之覺醒與奮鬥，需要中國社會環境之改善，也需要國際形勢之有利。在中國社會環境下，社會主義運動應進一步發展，為實現未來社會之理想而努力。



